

## 45. AL-JATSIYAH (TNUNDUK)

Suet ke-45: 37 ayat

Ngen madeak gen Allah da Paling memu-ak  
kulo paling Penyayang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Haa mim.
2. Kitab (dio) gi temuun kunai Tuhan ngen maha perkasa igoi maha bijaksano.
3. Sebeneane kunai lenget ngen bumai benei-benei terdapat tando-tado kuaso Tuhan untuk tun gi beriman.
4. Ngen kunai pencipto ndingen kunai binatang gi melata gi besitak (nak muno bumei) terdapat tando-tando (kuaso Tuhan) untuk kamu gi meyakin.
5. Kunai kolmon ngen kak bilai ngen ujon gi temuunne, Tuhan kunai lenget lajou gi midupne ngen bio ujan do'a bumoi sesudoh matie no. Ngen pado pekisaran angin dapat kulo tando-tando (kuaso Tuhan) gin kaum gi braka.
6. Do'oba ayat-ayat Tuhangikeme becone magea udie ngen sebeneane, mako ngen miling janu ba igoi itobo'o lak gabok sesudo (kalam) Tuhan ngen ketrangterang ne.
7. Celako gi loi kunai tiap-tiap tun gi dou bedusto kunai dou duso.
8. Si temiuk ayat-ayat Tuhan gi nba cone magea sundo'o si tetap sompong diroi awei-awei si coa temiuk. Makone nageak kabar riang singen asap gi gies.

حَمٰ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يُبْثُتُ مِنْ دَابَّةٍ إِذَا يُتْلَى لِقَوْمٍ

يُوقِنُونَ

وَأَخْتِلَفِ الْأَلْيَلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ

مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ

الرِّبَحِ إِذَا يُتْلَى لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

تِلْكَ إِيَّاتُ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَإِنِّي

حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَإِيَّاتِهِ يُؤْمِنُونَ

وَيَلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

يَسْمَعُ إِيَّاتِ اللَّهِ تُنَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْرُ مُسْتَكِبِرًا

كَانَ لَمْ يَسْمَعَهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ

9. Ngen apo bilo si namen barang didik tentang ayat-ayat keme. Mako ayat-ayat jemijoi olok-olok (tobo'o ba) gi dapet asep gi hinokan.
- وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْئًا أَخْنَذَهَا هُرُواً أُولَئِكَ  
لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٤﴾
10. Ba adeb tobo'o narako jahannam coa laku beguni magea tobo'o didik bae janu gi sudo tobo'o kemerjo. Coa kulo beguno cano gi tobo'o tinjaukan magea sesembah-sesembah (tobo'o) kunai Tuhan. Mako tobo'o nageak asap gi benia.
- مِنْ وَرَآءِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا  
وَلَا مَا أَخْنَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ﴿٥﴾
11. Dio (Al Quran) adeba petunjuk gen tun-tun gi kafir ayat-ayat Tuhanne bagoi tobo'o asap do'o sikso gi gies.
- هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ  
عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٍ ﴿٦﴾
12. Tuhan ba gi temunduk laut magea nu supayo kapal-kapal dapot blayar magia si seizin ngen supayo udi dapet meso spro karunia ne ngen mudah-mudahan udi besukur.
- \* آللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ  
بِأَمْرِهِ وَلَتَبْعَثُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧﴾
- وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاءِيَتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٨﴾
13. Ngen si temunduk udi janu ade nak lenget ngen janu gi ae nak bumoi kotone, (sebagai rahmat) kunai si, sebenia ne ngen gi awaio do'o benia-benia dapat tandatandokuaso Tuhan bagoi kaum gi be fikier.
- قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْرِبُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ  
أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْرِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩﴾
14. Nadieki ba megea tun-tun gi briman mako tobo'o gi nmaaf tun-tun gi coa saben magea biloi-biloi Tuhan karno tobo'o gi mbalos kaum magea janu gi sudo tobo'o kemerjone.
- مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ  
إِلَيْ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٠﴾
15. Barang api gi kemerjo amal gi soleh mako do'o adeba untuk dereine dewek. Ngen barang api kemerjo gi kidek, mako do'o ba gi menipo direine dewek, sudo'o magea Tuhanne ba udi gi nelek.
- وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
16. Sebeneane sudo keme mageak Bani Israil Al Kitab (Taurat) kuaso ngen knabian ngen keme mageak tobo'o reskei-reskei

gi baik keme melebiak tobo'o magea bangso-bangso (pado masone).

وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الظَّيْبَاتِ وَفَضَلَّتْهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ




17. Ngen keme mageak tobo'o keterangan-keterangan gi nyato tentang urusan (agamo) mako tobo'o coa be slesreak meleyenkan sesudo otko magea tobo'o pengetahuan karno dengki ne (gia ade) nak antaro tobo'o sebeneane Tuhan udi lak memutus antaro tobo'o bilo adep api gi tobo'o trus berseleseak magea ne.

وَإِذَا أَتَيْنَاهُمْ بِيَدِنَا مِنَ الْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ  
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ  
يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ  
تَحْكِيمٌ



18. Sudo'o keme jijokan udi ade nak das syariat (peraturan) kunai urusan (agamo) o, mako mileu ba syariat o gen coa ba udi mileu hawa nafsu tun-tun gi coa kunamen.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا  
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ



19. Sebeniane tobo'o debat-debat coa akan dapet mnolak kunai udi mai ba didik ngen (sikso) Tuhan. Sebneane tun-tun gi jolim'o pak'o tobo'o mengijo penulung bagei pak one gi loyen. Ngen Tuhan adeba pelindung tun-tun gi be takwa.

إِنَّمَا لَنِ يُغْنِوُ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ  
الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولَيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ  
الْمُتَّقِينَ




20. Al Quran o adeba pedoman bagei manusia, petunjuk gen rahmat gabei kaum gi yakin.

هَذَا بَصَرِيرٌ لِلنَّاسِ وَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ  
يُوقِنُونَ




21. Jano ba gi tun-tun gi menia gi delei'o menyangko, bahwo keme akan menia tobo'o awei tun-tun gi briman ngen mengerjakan amal gi sholeh. Samo ngen kehidupan dan matiene tobo'o? Sangat kidek bajano gi snang ko'o.

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أَجْتَرُهُوا أَسْيَاتٍ أَنْ جَعَلْهُمْ  
كَالَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّلِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَا هُمْ  
وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ



22. Ngen Tuhan menciptakan lenget ngen bumoi ngen tujuan gi benea supayo nales tiap-tiap dirai mage janu gi kenerjone ngen tobo'o coa gi merugoikan.

وَخَلَقَ اللَّهُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى  
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ



23. Mako perneak udi kemelek tun gi menjijoikan hawanafsu seumpamane Allah ngen Tuhan menyau seset berdasarkan ilmeu be ngen Tuhan sudo ne ngucai matie penengou ne ngen atir ne ngen mpek tutup ne nakdas pengelek ne, mako api gi mageak si petunjuk sesudo Than (menyau si sesat) mako bene udi coa mak ajaran?

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اخْنَذَ إِلَهَهُ هَوَّاهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ  
عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ  
غِشْنَوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ



24. Mako tobo'o mediak,: :kehidupan o coa leyen adeba kehidupan nak dunio bae. Ite matie ngen ite idup coade gi membrinasokan ite seluyen masa" ngen tobo'odebat-debat coa desi ilmou tentang o, tobo'o loten adeba mendugo-dugo bae.

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاٰنَا الْدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيَاٰ  
وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الْدَّهْرُ وَمَا هُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ  
إِنَّهُمْ إِلَّا يَظْهُرُونَ



25. Ngen pebilo gi nbaco magie tobo'o ayat-ayat keme gi jelas, coade bantahan tobo'o seloyen ngen mediak keloak ba ninik putang api bilo udi adeba tun-tun gi benie.

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيْنَتِيٰ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا  
أَنْ قَالُوا أَئْتُوْا بِعَابَابِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ



26. Kadadukakba: "Tuhanba gi midup ude sudo'o monoak udi, sudo'o mengupayokan kotone udi bilo kiamat gi coa de ragau-ragau magea si cuman adeba gi kedou manusio coa namen.

قُلِ اللَّهُ تُحِبُّ كُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ تَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمٍ  
الْقِيمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ



27. Gi ade ne Tuhan ba tuan kerajaan lenget ngen bumoi. Ngen pado bilo tejije ba kebangkitan ngen rugoi ba pado bilo'o tun-tun gi kemrjo batilan ne.

وَإِلَهٌ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ  
السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ تَخْرُجُ الْمُبْطَلُونَ



28. Ngen (pado bilo'o) udi kemleak tiap-tiap ummat blutut, tiap-tiap ummat nok utuk (kemleak) bukou catatan amalne pado bilo o, udi nageak balasan magea janu gi sudo udi kerjakan.

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَبِهَا  
الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



29. (Tuhan berfirman) "do'a ba kitab (catatan) keme gi menuturkan magea udi api benia ne, sebenia ne keme sudo

هَذَا كِتَبُنَا يَنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا  
نَسْتَنِسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ



meloak menulis jano gi sudo udi kemerjokan.

30. Ade ba tun-tun gi beriman ngen kemerjо amal gi soleh mako Tuhan tobo'o mpek tobo'o mai lem rahmat ne (surgo) do'a ba keuntungan gi ngati ne.

فَآمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

فَيُدْخَلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۝ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْمُبِينُ ﴿٢٣﴾

31. Ngen adekulo tun-tun gi kafir (magea to bo'a madiak) "mako jano ati ade ayat-ayat ku gi nbaco udi mako udi ambong udi jojoi gi menua duso?.

وَآمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ

فَأَسْتَكْبِرُتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٢٤﴾

32. Ngen pebilo bangkit gi nadiak (magea udi): "sebeneane janjoi Tuhan adeba banea ngen biloi bangkit o coa ade ragam magea si "pasti udi menjawab:"keme coa namen janoba biloi kiamat'o, kene debat-debat coa loyen cuman mendugo-dugo bae ngen keme debat-debat co'a yakin (ne).

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا  
قُلْتُمْ مَا نَدَرِي مَا الْسَّاعَةُ إِنْ نَظَنْنَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا  
نَحْنُ بِمُسْتَيْقِيْبِينَ ﴿٢٥﴾

33. Dan nyato ba magea tobo'o ogi kidek-kidek kunai gi jano tobo'o kemerjokan ngen tobo'o gi neluput magea (asab) gi tobo'o sllu berolok-olok.

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا  
بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

34. Dan gi nadeak (magea tobo'o) "pado biloi'o keme melupakan udi awei ipo udi sudo coa tinget gen pertemuan (magea) biloi udi ngen penan belek udi ade ba nerako neng udi debat-debat coa mendapat ketulungan.

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِنُكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ  
هَذَا وَمَا وَلَكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصْرٍ ﴿٢٧﴾

35. Be aweio, karno sum pamone udi menjijoi kan ayat-ayat Tuhan awei ollok-olok ngen udi sudo gi nipou magea kehidupan nak dunio. Mako pado biloi'o tobo'o coa kemlu narako dan coa kulo tobo'o nageak kesempatan untuk taubat.

ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ أَخْنَذْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ هُرُوا وَغَرَّتُكُمْ  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۝ فَالْيَوْمَ لَا تُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ  
يُسْتَعْتِبُونَ ﴿٢٨﴾

36. Mako kunai Tuhan ba kato pujian, Allah kunai leget ngen Allah kunai bumoi, Tuhan'o semesta alam.

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ

الْحَكِيمُ

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
37. Ngen magea si ba keagungan naklenget  
ngen bumoi, si maha perkaso ngen maha  
bijaksano.